

xTEST NO. 4**CH – 4****BIOLOGY****Time Allowed: 15 Minutes****CLASS 9TH – 2020****Paper: (Objective Type)****Maximum Marks: 12**

Note : Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C and D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the circle in front of A, B, C or D with pen ink to each question on the answer sheet provided.

Q.1	QUESTIONS	(A)	(B)	(C)	(D)
1.	In the cell wall of plants, the chemical present is:	Lignin	Cellulose	Chitin	Sodium
2.	Cell wall of prokaryotes composed of a chemical.	Plasmodesmata	Peptidoglycan	Chromatin	Stroma
3.	Ribosomes are constructed in	Endoplasmic reticulum	Nucleoid	Nucleolus	Nucleopores
4.	The function of Mitochondria.	Lipid storage	Protein synthesis	Photosynthesis	Cellular Respiration
5.	Cell organelle which contain digestive enzyme:	Ribosomes	Lysosomes	Centrioles	Endoplasmic reticulum
6.	Chemical matter abundantly present in the wood is.	Cutin	Lignin	Albumin	Globulin
7.	Sites where proteins are synthesized.	Mitochondria	Nucleus	Plastide	Ribosomes
8.	Who developed first microscope?	Robert Hooke	Louis pasture	Robert Brown	Zacharias Johnsons
9.	Cell organelle which contain digestive enzyme.	Ribosomes	Lysosomes	Centrioles	Endoplasmic reticulum
10.	The size of human red blood cells is.	2 μm	4μm	6μm	8μm
11.	In 1965 British Scientist first of all discovered cell	Robert Brown	Robert Hooks	Aristotle	Lamark
12.	The movement of molecules from a region of lower concentration to higher concentration is called.	Active transport	Osmosis	Diffusion	Filtration

	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	13	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	11	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	14	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	6	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	12	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	15	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

نوٹ: معروضی سوال نامے کو توجہ سے پڑھیں اور ہر MCQ کی درست آپشن A, B, C, D کو بیچ کی سیاہی یا مارگر سے اس طرح پُر کریں کہ سیاہی دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔